



سوال

(541) سرکاری نوکری کے متعلق سوال

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

(1) زید کے والد ایک سرکاری ملازم ہیں وہ دفتری اوقات کی پابندی نہیں کرتے اور اپنے دفتری وقت کا تقریباً ۴۰ فیصد حصہ اپنے ذاتی کاموں پر خرچ کرتے ہیں۔ نیز کسی سال پہلے ایک کلرک کی غلطی سے ان کی ایک انکریمنٹ زائد لگ گئی تھی جس کی وجہ سے ان کو ہر ماہ تقریباً ۴ یا ۵ سو روپے اپنی اصل تنخواہ سے زائد ملنے لگے ہیں جو کہ بالغ ہے ابھی طالب علم ہے اور اپنے اخراجات کے لیے ہر ماہ اپنے والد سے ۱۰۰۰ روپے لیتا ہے کیا قرآن وحدیث کی رو سے یہ پیسے زید کے لیے حلال ہیں یا حرام؟ نیز اپنے گھر سے یعنی اپنے والد کی آمدنی سے کھانا پینا اور کپڑے وغیرہ سلوانا جائز ہے یا نہیں؟

(2) بکر کا بھائی بیرون ملک ملازمت کرتا ہے۔ پاکستان سے بیرون ملک جاتے ہوئے بکر کے بھائی نے حکومت پاکستان سے غلط بیانی کی تھی کہ وہ پڑھائی کے لیے باہر جا رہا ہے تاکہ اسے پاکستان کی ملازمت سے چھٹی مل سکے پھر دوسرے ملک کے اربورٹ پر بھی غلط بیانی کی تھی کہ وہ یہاں سیر و سیاحت کے لیے آیا ہے بعد میں اسے وہاں ملازمت مل گئی اور وہ وہاں ایک ہسپتال میں بطور ڈاکٹر کام کر رہا ہے اب بکر کا بھائی بیرون ملک سے جو پیسے اپنی تنخواہ میں سے بکر کو اپنے والدین کو بھیجتا ہے کیا وہ پیسے بکر اور اس کے والدین کے لیے حلال ہیں یا حرام؟ (اس بات کا علم نہیں ہے کہ بکر کا بھائی اپنی ملازمت احسن طریقے سے انجام دے رہا ہے یا نہیں اگرچہ گمان یہی ہے کہ وہ ملازمت ذمہ داری سے انجام دیتا ہے)

(3) بینک میں غیر سودی اکاؤنٹ میں پسہ رکھوانا جائز ہے یا نہیں جبکہ گھر میں پسہ رکھنے سے جو ری ہونے کا کوئی خاص خطرہ نہ ہو۔

(4) زید بیرون ملک سے بینک کے ذریعے بکر کے اکاؤنٹ میں کچھ رقم بھیجتا ہے کیا یہ جائز ہے نیز یہ رقم بکر کے لیے حلال ہے یا بینک کے ذریعے ٹرانسفر ہونے کی وجہ سے حرام ہے؟

(5) زید کے پاس کچھ روپے رزق حلال کے ہیں۔ ان میں اس نے کچھ روپے حرام کمائی کے بھی ملائے اب تمام روپے باہم مل گئے کیا کسی طریقہ سے یہ ممکن ہے کہ حلال روپوں کو حرام روپوں سے الگ کیا جاسکے؟

(6) زید کے بینک اکاؤنٹ میں ۵۰۰ روپے تھے جو کہ حرام کی کمائی سے تھے بکر نے بیرون ملک سے کچھ پیسے بینک کے ذریعے اس کے اکاؤنٹ میں بھیجوائے یہ پیسے حلال کی کمائی سے تھے۔ اب زید اپنے اکاؤنٹ سے یہ نیت کر کے پیسے نکلتا ہے کہ وہ حلال کمائی والے پیسے نکلتا رہا ہے کیا یہ پیسے حلال ہوں گے یا اکاؤنٹ میں حرام پیسوں کی وجہ سے ساری رقم حرام ہو جائے گی؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

